



سوال

(481) ایسے بچے سے انکار کا حکم جو اپنے ماں باپ سے مشابہت نہیں رکھتا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک سائل کہتا ہے کہ میری بیوی نے ایسا بچہ جنم دیا ہے جو نہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ اس سے، یہ چیز مجھے غیض و غضب دلاتی ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو فزارہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنم دیا ہے۔ وہ اس بات کے ساتھ عورت پر تنقید کر رہا تھا کہ جب والدین سفید رنگ کے ہوں تو بچہ سیاہ کیسے ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بل لک من ابل؟ "کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟" اس آدمی نے کہا: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا "فما آلوانہا؟"

"ان کے رنگ کیا ہیں؟" اس نے جواب دیا: سرخ رنگ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا بل فیما من اوراق؟ کیا ان میں کچھ نیلے اونٹ بھی ہیں؟" اس نے کہا: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: "وہ ان میں کہاں سے آگئے؟" اس نے کہا: شاید انھوں نے (اوپر سے) کوئی رگ کھینچ لی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (فعلل ابنک ہذا نزع عرق)" [1]

"تیرے اس بیٹے کو بھی (اوپر سے) کسی رگ نے کھینچ لیا ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے سے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔ میں بھی سوال کرنے والے بھائی کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے شک کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ (محمد بن عبدالمقصود)

[1] - صحیح البخاری رقم الحدیث (4999) صحیح مسلم رقم الحدیث (1500)

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 421

محدث فتویٰ